

A

BILL

to establish a criminal prosecution service for Islamabad Capital Territory

WHEREAS it is expedient to establish an independent, effective and efficient service for prosecution of criminal cases, to ensure prosecutorial independence, for better coordination in the criminal justice system of the Islamabad Capital Territory and matters incidental thereto and connected therewith;

It is hereby enacted as follows:-

**CHAPTER-I
PRELIMINARY**

1. Short title, extent and commencement. – (1) This Act shall be called the Islamabad Capital Territory Criminal Prosecution Service (Constitution, Functions and Powers) Act, 2022.

(2) It shall extend to the Islamabad Capital Territory.

(3) It shall come into force at once.

2. Definitions. – (1) in this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

(a) **“Code”** means the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898);

(b) **“district”** means a district as defined in the Islamabad Local Government Act, 2015 (X of 2015) or such area notified by the Islamabad High Court to be a district;

(c) **“first information report”** means an information recorded under section 154 of the Code;

(d) **“Government”** means the Federal Government;

(e) **“High Court”** means the Islamabad High Court;

- (g) **“investigation officer”** means an officer of a law enforcement agency competent under any law, for the time being in force, to investigate an offence;
- (h) **“law enforcement agency”** means the Islamabad police and any other agency established under any law, as may be notified by the Government to be the law enforcement agency;
- (i) **“police rules”** means the police rules made under the law, for the crime being in force, for regulation of police in the Islamabad Capital Territory;
- (j) **“prescribed”** means prescribed by rules or regulations made under this Act;
- (k) **“prosecution”** means the prosecution of a criminal case as defined in the Code;
- (l) **“prosecutor”** means the Prosecutor General, Additional Prosecutor General, Deputy Prosecutor General, District Public Prosecutor, Deputy District Public Prosecutor, Assistant District Public Prosecutor and a Public Prosecutor by whatever designation called appointed under this Act and shall be deemed to be the public prosecutor under the Code;
- (m) **“Prosecutor General”** means the Prosecutor General appointed under this Act;
- (n) **“regulations”** means the regulations made under this Act;
- (o) **“rules”** means rules made under this Act; and
- (p) **“Service”** means the Islamabad Capital Territory Criminal Prosecution Service.

(2) The words and expressions used but not defined herein shall have the same meaning as are assigned thereto in the Code.

CHAPTER-II
ESTABLISHMENT, CONSTITUTION AND
ADMINISTRATION OF THE SERVICE

3. Establishment of the Islamabad Capital Territory Criminal Prosecution Service. – (1) The Government shall, by notification in the official Gazette, establish and maintain the Islamabad Capital Territory Prosecution Service.

(2) The Service shall consist of the Prosecutor General, Additional Prosecutors General, Deputy Prosecutors General, District Public Prosecutors, Deputy District Public Prosecutors and Assistant District Public Prosecutors.

4. Superintendence and administration. – (1) The Government shall exercise superintendence over the Service to achieve the objectives of this Act.

(2) The administration of the Service shall, in the prescribed manner, vest in the Prosecutor General.

(3) To carry out purposes of this Act, the Prosecutor General shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.

(4) An Assistant District Public Prosecutor, a Deputy District Public Prosecutor, a District Public Prosecutor, a Deputy Prosecutor General and an Additional Prosecutor General shall perform functions under the directions of the Prosecutor General.

(5) Subject to the general directions of the Prosecutor General, all other Prosecutors within a district shall perform functions under the control of the District Public Prosecutor.

5. Appointment and term of the Prosecutor General.– (1) The Prosecutor General shall be the head of the Service and shall be appointed by the Government on such terms and conditions as the Government may determine:

Provided that the terms and conditions of service of the Prosecutor General shall not be varied during the initial or extended term of his office.

(2) The Prosecutor General shall hold office for a term of three years but the Government may, after evaluation of the performance of the Prosecutor General in the prescribed manner, extend that term for a further period of two years.

(3) The Prosecutor General may resign from his post during the tenure of his office by submitting his resignation in writing to the Government through the Division to which business of this Act stands allocated.

(4) The Government may, for reasons to be recorded in writing and after providing him an opportunity of being heard, remove the Prosecutor General prior to the completion of his term, on the ground of misconduct, inefficiency or physical infirmity.

(5) The Prosecutor General shall have a right of representation and audience on behalf of the Government in all courts including the High Court, the Federal Shariat Court and the Supreme Court.

(6) The Prosecutor General may, by notification in official Gazette, delegate any of his functions to an Additional Prosecutor General or to a Deputy Prosecutor General.

6. Qualifications for the appointment of Prosecutor General.— A person shall not be appointed as Prosecutor General unless he is a citizen of Pakistan, and is not less than forty-five years of age, and he—

- (a) has, for a period of or for the periods aggregating not less than ten years, been an advocate of the High Court; or
- (b) is a law graduate and has, for a period of not less than fifteen years, been a member of the prescribed civil service; or

- (c) has, for a period of not less than ten years, held a judicial office in the Islamic Republic of Pakistan; or
- (d) has, for a period of not less than five years, performed functions of an Additional Prosecutor General; or
- (e) has, for a period of not less than seven years, performed the functions of a District Public Prosecutor or has performed functions of a Prosecutor in the Islamic Republic of Pakistan, for a period of not less than fifteen years.

Explanation.— In computing the period during which a person has been an advocate of the High Court or held judicial office, there shall be included any period during which he has held judicial office after he became an advocate or, as the case may be, the period during which he has been an advocate after having held judicial office.

7. Appointments of other than Prosecutor General.— (1) The Government may, by notification in the official Gazette, appoint Additional Prosecutors General and Deputy Prosecutors General to conduct criminal cases in the Supreme Court, the High Court, the Federal Shariat Court or any other special court.

(2) The Government may, by notification in the official Gazette, appoint a District Public Prosecutor in each district who shall be the officer-in-charge of the prosecution in the district within the meanings of the Code.

(3) Appointments to the Service, except appointment of the Prosecutor General under section 5, shall be either by initial recruitment or by promotion or by transfer as may be prescribed.

(4) All appointments by initial recruitment shall be made on the recommendation of the Federal Service Commission.

CHAPTER-III POWERS AND FUNCTIONS OF THE PROSECUTORS

8. Powers of Prosecutors.— (1) The Prosecutor General may issue general guidelines to the Prosecutors or officers responsible for investigation for effective and efficient prosecution.

(2) The Prosecutor General or the District Public Prosecutor may refer to the authority, competent to initiate disciplinary proceedings under any law for the time being in force, to take disciplinary action against any public servant working in connection with investigation or prosecution, for any act committed by him which is prejudicial to the prosecution.

(3) A Prosecutor may—

- (a) exercise all or any of the powers mentioned in section 9;
- (b) call for a report within a specified time from any officer of law enforcing agency in relation to an investigation;
- (c) call for record or any other document within a specified time from a law enforcement agency and, if necessary, from any other Government department or agency as may be necessary for the purposes of prosecution;
- (d) perform such functions and exercise such powers as may be entrusted to him under the Code and any other law for the time being in force;
- (e) with the consent of the court, withdraw from prosecution of any person either generally or in respect of any one or more of the offences for which he is being tried, after obtaining prior approval of—
 - (i) the District Public Prosecutor, where the offence is punishable by imprisonment up to three years;
 - (ii) the Prosecutor General, where the offence is punishable by imprisonment up to seven years; and
 - (ii) the Government, in all other offences and for the offences triable by the special courts.

(4) At any stage of a trial before any trial court subordinate to the High Court before the judgment is passed, the Prosecutor General or any Prosecutor specifically authorized by him may, for reasons to be recorded in writing, inform

the court on behalf of the Government that the Prosecutor shall not prosecute the accused upon the charge and thereupon all proceedings against the accused shall be stayed and he shall be discharged of from the same:

Provided that such discharge shall not amount to an acquittal unless the court directs otherwise.

9. Conduct of prosecution. – (1) The Prosecutors shall be responsible for the conduct of prosecution on behalf of the Government.

(2) The Prosecutor General or, if so authorized by him, an Additional Prosecutor General shall distribute work among the Prosecutors in respect of the Supreme Court, the High Court, the Federal Shariat Court or a special court established under any law for the time being in force.

(3) A District Public Prosecutor shall distribute work among the Prosecutors with respect to the Courts of Sessions and Courts of Magistrates within his district.

(4) A police report under section 173 of the Code including a report of cancellation of the first information report or a request for discharge of a suspect or an accused shall be submitted to a Court through the Prosecutor appointed under this Act.

(5) The Prosecutor shall scrutinize and evaluate the investigation and report in the manner as prescribed under section 173 of the Code.

10. Conduct of prosecution before superior courts.– (1) Without prejudice to the powers conferred under any law on the office of the Attorney General for Pakistan and the Advocate General, the Prosecutor General and the Additional Prosecutor General may depute any Prosecutor, otherwise qualified, for conducting prosecution before the Supreme Court, the High Court or the Federal Shariat Court.

(2) The Prosecutor General shall keep liaison with the office of the

Attorney General for Pakistan and the Advocate General in relation to criminal matters pending in any such Court.

11. Responsibilities of Police towards Prosecutors. – (1) An officer-in-charge of a police station or the investigation officer shall–

- (a) immediately report to the District Public Prosecutor, the registration of each criminal case by sending a copy of the first information report;
- (b) send the police report as prescribed under section 173 of the Code; and
- (c) if an investigation is not completed or cannot be completed within the time provided under the law, record reasons for the delay and inform the Prosecutor.

(2) An officer-in-charge of the police station or investigation officer shall, within the time specified by the Prosecutor, comply with the directions and remedy the defects pointed out by the Prosecutor in a police report under section 173 of the Code including report for cancellation of the first information report or request for discharge of an accused or suspect.

12. Duties of the Prosecutors. – (1) The Prosecutor General shall–

- (a) prepare an annual report of the Service and cause it to be placed before the Government within three months of the conclusion of the calendar year to which the report pertains and the Government shall lay the report before both Houses of the Parliament (*Majlis-e-Shoora*) within two months of its receipt; and
- (b) keep the Government informed about the performance of the Service.

(2) A Prosecutor, working under the directions of the Prosecutor General, shall keep the Prosecutor General informed about the progress of all the cases under his charge.

(3) The District Prosecutor shall keep the Prosecutor General informed

about the progress of all criminal cases in the district.

(4) A Prosecutor, working under the supervision and control of the District Public Prosecutor, shall keep the concerned District Public Prosecutor informed about the progress of all criminal cases under his charge.

(5) Where a Prosecutor is of the opinion that an application for enhancement of sentence or a revision should be filed in any case, he shall refer the matter to the District Public Prosecutor or the Prosecutor General, who shall take appropriate measures thereon under the law.

(6) In case of acquittal by a—

- (a) Court in a district, the concerned District Public Prosecutor; and
- (c) special court, the concerned Prosecutor,

shall report the details of the case to the Prosecutor General along with grounds for appeal and the Prosecutor General may request the Government for preferring an appeal.

(7) A Prosecutor shall maintain an independent file in the prescribed manner of each case assigned to him for prosecution.

(8) A Prosecutor shall—

- (a) in all matters, perform his functions and exercise his powers fairly, honestly, with due diligence, in the public interest and to uphold justice;
- (b) on receipt of the police report, final or interim, including a report for cancellation of first information report or request for discharge of an accused, scrutinize the same and process it under section 9;
- (c) make such entries in the record and registers as may be prescribed;

- (d) report to the District Public Prosecutor, details of investigations, if any, conducted in violation of law or instructions issued by the Prosecutor General or not completed in the time provided under law without reasonable cause and the District Public Prosecutor may inform the head of investigation and the Prosecutor General for appropriate action; and
- (e) perform such other duties as may be assigned to him under this Act by the Government or the Prosecutor General.

CHAPTER-IV ESTABLISHMENT OF PROCESS SERVING AGENCY

13. Establishment of agency.—(1) The Government may, by notification in the official Gazette, establish a criminal process serving agency to perform such process serving functions as may be prescribed, which may include the use of modern devices to serve processes and summons.

(2) The criteria for appointment and terms and conditions of service of the members of criminal process serving agency, established under subsection (1), shall be such as may be prescribed.

CHAPTER-V MISCELLANEOUS

14. Power to make rules and regulations.—(1) The Government may, by notification in the official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) The Prosecutor General may, by notification in the official Gazette, subject to rules and with the prior approval of the Government, make regulations for giving effect to the provisions of this Act.

15. Terms and conditions of Service.— Subject to the provisions of this Act and the rules, members of the Service, including the staff, shall be deemed to be public servants within the meanings of section 21 of the Pakistan

Penal Code (Act XLV of 1860).

16. Code of conduct.— (1) The Prosecutor General shall, with the prior approval of the Government, issue a code of conduct for the Prosecutors.

(2) A Prosecutor shall perform functions under this Act in accordance with the code of conduct issued under sub-section (1).


17. Indemnity.— No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against a Prosecutor in respect of anything done or attempted to be done or deemed to have been done by him in good faith under this Act.

18. Removal of difficulties.— If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of this Act, the Government may make such order not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary for the purpose of removing the difficulty.

19. Savings.— All appointments made, actions taken and notifications issued by the Government before the commencement of this Act, with respect to prosecution of criminal cases, shall be deemed to have been made, taken and issued under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Presently, in the Islamabad Capital Territory there is no dedicated prosecution service to represent the State in criminal cases before the Courts. This Bill seeks to establish an independent, effective and efficient service for prosecution of criminal cases, to ensure prosecutorial independence for better coordination between the prosecution and law enforcement agencies in the Islamabad Capital Territory.


Minister-In-Charge

[قومی اسمبلی میں پیش کرنے کے لئے]

دارالحکومت اسلام آباد کے لیے فوجداری عدالتی کارروائی کی خدمت قائم کرنے کا بل

ہر گاہ یہ قرین مصلحت ہے کہ دارالحکومت اسلام آباد کے علاقہ جات اور اس کے ضمنی اور اس سے منسلک امور کے فوجداری عدالتی نظام میں بہتر تعاون کے لیے، عدالتی خود مختاری کی یقین دہائی کے لیے فوجداری مقدمات کی عدالتی کارروائی کے لیے، خود مختار، موثر اور بہترین سروس قائم کی جائے؛

لہذا بذریعہ ہذا قانون وضع کیا جاتا ہے:-

باب۔ ایک

ابتدائیہ

۱۔ مختصر عنوان، وسعت اور آغاز نفاذ:- یہ ایکٹ دارالحکومت اسلام آباد کا فوجداری عدالتی

کارروائی کی سروس (دستور کار ہائے منصبی اور اختیارات) کا ایکٹ، ۲۰۲۲ء کے نام سے موسوم ہوگا۔

(۲) اس کا اطلاق دارالحکومت اسلام آباد کے علاقہ جات پر ہوگا۔

(۳) یہ فی الفور نافذ العمل ہوگا۔

۲۔ تعریفات:- (۱) اس ایکٹ میں بجز اس کے کہ کوئی شے متن یا سیاق کے منافی نہ ہو۔

(الف) ”مجموعہ“ سے ضابطہ فوجداری، ۱۸۹۸ء (ایکٹ ۵ بابت ۱۸۹۸ء) مراد ہے؛

(ب) ”ضلع“ سے ضلع جیسا کہ اسلام آباد بلدیاتی حکومت ایکٹ، ۲۰۱۵ء (۵ بابت ۲۰۱۵ء) یا

ایسا علاقہ جس کو اسلام آباد عدالت عالیہ کی جانب سے بطور ضلع مشتہر کیا گیا ہو؛

(ج) ”ابتدائی اطلاعی رپورٹ“ سے مجموعہ کی دفعہ ۱۵۴ کے تحت اطلاع قلمبند کرنا، مراد ہے؛

(د) ”حکومت“ سے وفاقی حکومت، مراد ہے؛

(ه) ”عدالت عالیہ“ سے عدالت عالیہ اسلام آباد، مراد ہے؛

- (۴) قرآن میں جو کچھ صریحاً مذکور ہے وہ اس آیت سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس آیت میں ہی نازل فرمایا ہے۔ (۴)
- ۱) قرآن میں جو کچھ صریحاً مذکور ہے وہ اس آیت سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس آیت میں ہی نازل فرمایا ہے۔ (۴)
- ۲) قرآن میں جو کچھ صریحاً مذکور ہے وہ اس آیت سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس آیت میں ہی نازل فرمایا ہے۔ (۴)
- ۳) قرآن میں جو کچھ صریحاً مذکور ہے وہ اس آیت سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس آیت میں ہی نازل فرمایا ہے۔ (۴)
- ۴) قرآن میں جو کچھ صریحاً مذکور ہے وہ اس آیت سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس آیت میں ہی نازل فرمایا ہے۔ (۴)
- ۵) قرآن میں جو کچھ صریحاً مذکور ہے وہ اس آیت سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس آیت میں ہی نازل فرمایا ہے۔ (۴)
- ۶) قرآن میں جو کچھ صریحاً مذکور ہے وہ اس آیت سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس آیت میں ہی نازل فرمایا ہے۔ (۴)
- ۷) قرآن میں جو کچھ صریحاً مذکور ہے وہ اس آیت سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس آیت میں ہی نازل فرمایا ہے۔ (۴)
- ۸) قرآن میں جو کچھ صریحاً مذکور ہے وہ اس آیت سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس آیت میں ہی نازل فرمایا ہے۔ (۴)
- ۹) قرآن میں جو کچھ صریحاً مذکور ہے وہ اس آیت سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس آیت میں ہی نازل فرمایا ہے۔ (۴)
- ۱۰) قرآن میں جو کچھ صریحاً مذکور ہے وہ اس آیت سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس آیت میں ہی نازل فرمایا ہے۔ (۴)

باب۔ دوسروس کا قیام، دستور اور انتظامیہ

۳۔ دارالحکومت اسلام آباد کی عدالتی کارروائی کی سروس کا قیام:- (۱) حکومت، بذریعہ اعلامیہ

سرکاری جرید میں، دارالحکومت اسلام آباد کی عدالتی کارروائی کی سروس قائم کرے گی اور سنبھالے گی۔

(۲) سروس، پراسیکوٹر جنرل، ایڈیشنل پراسیکوٹر جنرل، ڈپٹی پراسیکوٹر جنرل، ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکوٹر، ڈپٹی ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکوٹر اور اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکوٹرز پر مشتمل ہوگی۔

۴۔ نگرانی اور انتظامیہ:- (۱) حکومت، اس ایکٹ کی اغراض حاصل کرنے کے لیے سروس

پر نگرانی کرے گی۔

(۲) سروس کی انتظامیہ کو، مجوزہ طریق میں، پراسیکوٹر جنرل کے اختیارات حاصل ہوں گے۔

(۳) اس ایکٹ کی اغراض کی بجا آوری کے لیے، پراسیکوٹر جنرل ایسے اختیارات کا استعمال اور ایسے کارہائے منصبی ادا کرے گا جیسا کہ صراحت کی گئی ہو۔

(۴) اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکوٹر، ڈپٹی ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکوٹر، ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکوٹر، ڈپٹی پراسیکوٹر جنرل اور ایڈیشنل پراسیکوٹر جنرل، پراسیکوٹر جنرل کی ہدایات کے تحت کارہائے منصبی کی ادائیگی کریں گے۔

(۵) پراسیکوٹر جنرل کی عمومی ہدایات کے تابع، تمام دیگر پراسیکوٹرز، ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکوٹر کے کنٹرول کے تحت اپنے ضلع میں کارہائے منصبی کی ادائیگی کریں گے۔

۵۔ پراسیکوٹر جنرل کی تقرری اور میعاد:- (۱) پراسیکوٹر جنرل سروس کا سربراہ ہوگا اور

حکومت کی جانب سے ایسی قیود و شرائط پر، اس کا تقرر کیا جائے گا جیسا کہ حکومت متعین کر سکے:

مگر شرط یہ ہے کہ پراسیکوٹر جنرل کی سروس کی قیود و شرائط اس کے عہدے کی ابتدائی اور توسیع شدہ میعاد کے دوران تبدیل نہیں ہوں گی۔

(۲) پراسیکوٹر جنرل تین سال کی میعاد کے لیے عہدہ سنبھالے گا لیکن حکومت مجوزہ طریق میں پراسیکوٹر جنرل کی کارکردگی کی تشخیص کے بعد، مزید دو سال کے عرصے کے لیے توسیع کر سکے گی۔

(۳) پراسیکیوٹر جنرل، ڈویژن کے ذریعے جس کو اس ایکٹ کے امور تفویض کیے گئے ہوں، حکومت کو اپنا استعفیٰ تحریری طور پر جمع کروانے کے ذریعے اپنے عہدے کی معیاد کے دوران استعفیٰ دے سکے گا۔

(۴) حکومت وجوہات کو تحریری طور پر قلمبند کرنے اور شنوائی کے لیے اس کو موقع فراہم کرنے کے بعد، غلط روی، نااہلی اور جسمانی کمزوری کی بناء پر، پراسیکیوٹر جنرل کو، اس کی معیاد مکمل ہونے سے قبل، برخاست کر سکے گی۔

(۵) پراسیکیوٹر جنرل کو، حکومت کی ایماء پر، تمام عدالتوں میں، جس میں عدالت عالیہ، وفاقی شرعی عدالت اور عدالت عظمیٰ شامل ہیں، نمائندگی اور سماعت کا حق حاصل ہوگا۔

(۶) پراسیکیوٹر جنرل، سرکاری جریدے میں بذریعہ اعلامیہ، ایڈیشنل پراسیکیوٹر جنرل یا ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل کو اپنے کوئی بھی کارہائے منصبی تفویض کر سکے گا۔

۶۔ پراسیکیوٹر جنرل کی تقرری کے لیے اہلیت:- شخص کا پراسیکیوٹر جنرل کے طور پر تقرر نہیں

کیا جائے گا تا وقتیکہ وہ پاکستان کا شہری ہو اور پینتالیس سال کی عمر کا ہو، اور وہ۔۔۔

(الف) عدالت عالیہ کا دس سال کے عرصے تک یا کم عرصے کا نہ ہو، وکیل رہا ہو؛ یا

(ب) لاء گریجویٹ ہو اور مجوزہ سول ملازمت میں پندرہ سال کے عرصے تک، یا کم عرصے کا نہ ہو، رکن رہا ہو؛ یا

(ج) اسلامی جمہوریہ پاکستان میں عدالتی عہدے رکھتا ہو، جو کہ دس سال سے کم میعاد کا نہ ہو؛ یا

(د) ایڈیشنل پراسیکیوٹر جنرل کے کارہائے منصبی کی ادائیگی کرتا ہو جو کہ پانچ سال کی میعاد سے کم نہ ہو؛ اور

(ه) اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر کے کارہائے منصبی کی ادائیگی کرتا ہو

جو کہ سات سال کی میعاد سے کم نہ ہو یا پراسیکیوٹر کے کارہائے منصبی کی ادائیگی کرتا ہو جس کی میعاد پندرہ سال سے کم نہ ہو۔

وضاحت:- میعاد کا حساب لگانے میں جب شخص عدالت عالیہ کا وکیل ہو یا عدالتی عہدہ رکھتا

ہو، وہ میعاد جس کے دوران وہ وکیل بننے کے بعد وہ عدالتی عہدے پر فائز ہو یا وہ عدالتی عہدے رکھنے کے بعد وہ وکیل ہو، جیسی بھی صورت حال ہو، کوئی بھی عرصہ ہو، اس میں شامل ہوگا۔

طلب کر سکے گا؛

(د) ایسی کارہائے منصبی کی ادائیگی کر سکے گا اور ایسے اختیارات کا استعمال کر سکے گا جیسا کہ اسے مجموعہ اور فی الوقت نافذ العمل کسی دیگر قانون کے تحت تفویض کیے گئے ہوں؛

(ه) عدالت کی اجازت سے کسی شخص کو آیا کہ عمومی طور پر ایک یا زائد جرائم کی ضمن میں، جس کے لیے اس کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہو، کو حسب ذیل کی حتمی اجازت حاصل کرنے کے بعد، عدالتی کارروائی سے نکال سکے گا:-

(اؤل) ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر سے، جہاں جرم تین سال کی قید تک کے لیے قابل سزا

ہو؛

(دوم) پراسیکیوٹر جنرل سے، جہاں جرم سات سال کی قید تک کے لیے قابل سزا ہو؛ اور
(سوم) حکومت سے، تمام دیگر جرائم میں اور ان جرائم میں جو اسپیشل کورٹس میں قابل

سماعت ہو۔

(۴) عدالتی فیصلہ صادر ہونے سے قبل، عدالت عالیہ کے ماتحت سماعت کرنے والی کسی عدالت کے پاس سماعت کے کسی بھی مرحلے پر، پراسیکیوٹر جنرل یا اس کی جانب سے خاص طور پر مجاز کردہ کوئی پراسیکیوٹر، تحریری طور پر وجوہات کو قلمبند کرنے کے لیے، عدالت کو حکومت کی ایما پر مطلع کر سکے گا کہ پراسیکیوٹر، ملزم پر الزام لگنے پر کارروائی نہیں کرے گا اور اس کے بعد ملزم کے خلاف تمام عدالتی کارروائیاں روک دی جائیں گی اور اس کو رہا کر دیا جائے گا؛ مگر شرط یہ ہے کہ ایسی رہائی، بری قرار دینا متصور نہیں ہوگی جب تک کہ عدالت بصورت دیگر ہدایت جاری نہ کرے۔

۹۔ عدالتی کارروائی کا انصرام:- پراسیکیوٹر حکومت کی ایما پر عدالتی کارروائیوں کے انصرام

کے ذمہ دار ہوں گے۔

(۲) پراسیکیوٹر جنرل یا اس کی جانب سے مجاز ہو، ایڈیشنل پراسیکیوٹر جنرل، عدالت عظمیٰ، عدالت عالیہ، وفاقی شرعی عدالت یا فی الوقتی نافذ العمل کسی قانون کے تحت قائم کردہ مخصوص عدالت کی ضمن سے پراسیکیوٹرز کے مابین کام تقسیم کرے گا۔

(۳) ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر اپنے ضلع میں، سیشن عدالت اور مجسٹریٹ کی عدالتوں کی ضمن میں پراسیکیوٹرز

کے مابین کام تقسیم کرے گا۔

(۴) مجموعہ کی دفعہ ۱۷۳ کے تحت پولیس رپورٹ کو، جس میں ابتدائی اطلاعی رپورٹ کی منسوخی کی رپورٹ یا مشکوک یا ملزم کی رہائی کے لیے درخواست شامل ہے، کو اس ایکٹ کے تحت تقرر کردہ پراسیکیوٹر کے ذریعے سے، عدالت کو جمع کروائی جائے گی۔

(۵) پراسیکیوٹر تفتیش اور رپورٹ کی ایسے طریق پر جانچ پڑتال اور تشخیص کرے گا جیسا کہ دفعہ ۱۷۳ کے تحت صراحت کی جائے۔

۱۰۔ اعلیٰ عدالتوں کے پاس عدالتی کارروائی کا انصرام:- (۱) اٹارنی جنرل پاکستان اور

ایڈووکیٹ جنرل، پراسیکیوٹر جنرل اور ایڈیشنل پراسیکیوٹر جنرل اپنے عہدے پر کسی قانون کے تحت تفویض کردہ اختیارات کے بلا مضرت کسی پراسیکیوٹر کو عدالت عظمیٰ، عدالت عالیہ یا وفاقی شرعی عدالت کے پاس، اہلیت کے علاوہ، عدالتی کارروائی کا انصرام کر سکتا ہے۔

(۲) پراسیکیوٹر جنرل مذکورہ عدالت میں زیر التواء فوجداری امور کی ضمن میں اٹارنی جنرل پاکستان اور ایڈووکیٹ جنرل کے عہدے کے ساتھ تعلق قائم کر سکے گا۔

۱۱۔ پراسیکیوٹرز کی جانب پولیس کی ذمہ داریاں:- پولیس اسٹیشن کا افسر انچارج یا تفتیشی افسر۔

(الف) ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر، کو ابتدائی اطلاعی رپورٹ کی کاپی بھیجنے کے ذریعے سے ہر فوجداری

مقدمے کی رجسٹریشن کی رپورٹ فوری طور پر کرے گا؛

(ب) مجموعہ کی دفعہ ۱۷۳ کے تحت مجوزہ پولیس رپورٹ بھیجے گا؛ اور

(ج) اگر کسی قانون کے تحت فراہم کردہ وقت کے اندر تفتیش مکمل نہیں ہوتی یا مکمل نہیں کی جاسکتی

تو، التواء کی وجوہات قلمبند کرے گا اور پراسیکیوٹر کو مطلع کرے گا۔

(۲) تھانے کا افسر انچارج یا تفتیشی افسر، پراسیکیوٹر کی جانب سے صراحت کردہ وقت کے اندر، مجموعہ کی

دفعہ ۱۷۳ کے تحت، پولیس رپورٹ، جس میں ابتدائی اطلاعی رپورٹ کی منسوخی کی رپورٹ یا ملزم یا مشکوک کی رہائی کی

درخواست شامل ہے، میں پراسیکیوٹر کی جانب سے نشاہدی کی گئی خامیوں کا تدارک کرے گا اور تعمیل کرے گا۔

۱۲۔ پراسکیوٹرز کے فرائض:- (۱) پراسکیوٹرز جنرل:-

(الف) سروس کی سالانہ رپورٹ تیار کرے گا اور تقویمی سال کے اختتام کے تین ماہ کے اندر حکومت کے پاس پیش کرنے کا موجب ہوگا جس سے متعلقہ رپورٹ ہے اور حکومت اس وصولی کے دو ماہ کے اندر پارلیمنٹ (مجلس شوریٰ) کے دونوں ایوان کے پاس رپورٹ پیش کرے گی؛ اور

(ب) حکومت کی سروس کی ادائیگی سے متعلق آگاہ رکھے گا۔

(۲) پراسکیوٹرز جنرل کی ہدایت کے تحت کام کرنے والا پراسکیوٹر اس کے تحت ہونے والے تمام مقدمات کی کارکردگی سے متعلق پراسکیوٹرز جنرل کو آگاہ رکھے گا۔

(۳) ڈسٹرکٹ پراسکیوٹر ضلع سے تمام فوجداری مقدمات کی کارکردگی سے متعلق پراسکیوٹرز جنرل کو آگاہ رکھے گا۔

(۴) ڈسٹرکٹ پبلک پراسکیوٹر کی نگرانی اور کنٹرول کے تحت کام کرنے والا پراسکیوٹر اس کے تحت ہونے والے تمام فوجداری مقدمات کی کارکردگی سے متعلق، ڈسٹرکٹ پبلک پراسکیوٹر کو آگاہ رکھے گا۔

(۵) جہاں پراسکیوٹر کی رائے ہو کہ کسی مقدمے میں سزا بڑھانے یا نظر ثانی کی درخواست دائر کرنی چاہیے، تو ڈسٹرکٹ پبلک پراسکیوٹر یا پراسکیوٹرز جنرل کو معاملہ پیش کرے گا جو قانون کے تحت درج مناسب اقدامات کرے گا۔

(۶) حسب ذیل کی جانب سے بری کرنے کی صورت میں:-

(الف) ضلعی عدالت میں متعلقہ ڈسٹرکٹ پبلک پراسکیوٹر؛ اور

(ب) مخصوص عدالت ہو تو متعلقہ پراسکیوٹر،

پراسکیوٹرز جنرل کو اپیل کی وجوہات کے ساتھ مقدمے کی تفصیلات رپورٹ کرے گا اور پراسکیوٹرز جنرل حکومت کو اپیل کرنے کی درخواست کر سکے گا۔

(۷) پراسکیوٹر، عدالتی کارروائی کے لیے اس کو تفویض کردہ مقدمے کے مجوزہ طریق میں علیحدگی فائل تیار رکھے گا۔

(۸) پراسکیوٹرز ---

(الف) تمام امور میں اپنے کارہائے منصبی کی ادائیگی کرے گا اور مفاد عامہ میں اور انضباط قائم

- ہم تر کر تے ہیں کہ اس کا رخ و ہوا سے متاثر ہے اور اس پر ہوا کی تیز رفتاری اور تیز ہوا

سوں کی تیز رفتاری کے باعث اس کی ہوا کی تیز رفتاری سے متاثر ہے اور اس پر ہوا کی تیز رفتاری اور تیز ہوا

- وہ اس کے لئے ہوا کی تیز رفتاری سے متاثر ہے اور اس پر ہوا کی تیز رفتاری اور تیز ہوا

ہو کر اس کا رخ و ہوا سے متاثر ہے اور اس پر ہوا کی تیز رفتاری اور تیز ہوا

ہو کر اس کا رخ و ہوا سے متاثر ہے اور اس پر ہوا کی تیز رفتاری اور تیز ہوا

لہذا یہ ہے کہ اس کا رخ و ہوا سے متاثر ہے اور اس پر ہوا کی تیز رفتاری اور تیز ہوا

رہ - خ

- اس کا رخ و ہوا سے متاثر ہے اور اس پر ہوا کی تیز رفتاری اور تیز ہوا

(۱) اس کا رخ و ہوا سے متاثر ہے اور اس پر ہوا کی تیز رفتاری اور تیز ہوا

ہو کر اس کا رخ و ہوا سے متاثر ہے اور اس پر ہوا کی تیز رفتاری اور تیز ہوا

ہو کر اس کا رخ و ہوا سے متاثر ہے اور اس پر ہوا کی تیز رفتاری اور تیز ہوا

ہو کر اس کا رخ و ہوا سے متاثر ہے اور اس پر ہوا کی تیز رفتاری اور تیز ہوا

(۲) اس کا رخ و ہوا سے متاثر ہے اور اس پر ہوا کی تیز رفتاری اور تیز ہوا

ہو کر اس کا رخ و ہوا سے متاثر ہے اور اس پر ہوا کی تیز رفتاری اور تیز ہوا

ہو کر اس کا رخ و ہوا سے متاثر ہے اور اس پر ہوا کی تیز رفتاری اور تیز ہوا

ہو کر اس کا رخ و ہوا سے متاثر ہے اور اس پر ہوا کی تیز رفتاری اور تیز ہوا

(۳) اس کا رخ و ہوا سے متاثر ہے اور اس پر ہوا کی تیز رفتاری اور تیز ہوا

ہو کر اس کا رخ و ہوا سے متاثر ہے اور اس پر ہوا کی تیز رفتاری اور تیز ہوا

ہو کر اس کا رخ و ہوا سے متاثر ہے اور اس پر ہوا کی تیز رفتاری اور تیز ہوا

۵۵

باب۔ پانچ

متفرکات

۱۴۔ قواعد و ضوابط وضع کرنے کا اختیار:- حکومت، سرکاری جریدے میں بذریعہ اعلامیہ، اس

ایکٹ کی اغراض کی بجا آوری کے لیے قواعد وضع کر سکے گی۔

(۲) پراسیکیوٹر جنرل، سرکاری جریدے میں بذریعہ اعلامیہ، قواعد کے تابع اور حکومت کی پیشگی منظوری کے

ساتھ، اس ایکٹ کے احکامات کو موثر بنانے کے لیے ضوابط وضع کر سکے گا۔

۱۵۔ سروس کی قیود و شرائط:- اس ایکٹ اور قواعد کے احکامات کے تابع، سروس کے اراکین، جس

میں عملہ شامل ہے، مجموعہ تعزیرات پاکستان، ۱۸۶۰ء (ایکٹ نمبر ۴۵ بابت ۱۸۶۰ء) کی دفعہ ۲۱ کی رو سے، سرکاری ملازمین متصور ہوں گے۔

۱۶۔ ضابطہ کار:- (۱) پراسیکیوٹر جنرل حکومت کی پیشگی اجازت کے ساتھ، پراسیکیوٹرز کے لیے ضابطہ کار

جاری کرے گا۔

(۲) پراسیکیوٹر اس ایکٹ کے تحت اور ذیلی دفعہ (۱) کے تحت جاری کردہ ضابطہ کار کی مطابقت میں،

کارہائے منصبی کی ادائیگی کرے گا۔

۱۷۔ استثنیٰ:- پراسیکیوٹر کے خلاف اس ایکٹ کے تحت اس کی جانب سے نیک نیتی سے کیا گیا کسی عمل یا کیے

جانے کی کوشش یا متصور کیے جانے کی ضمن میں کوئی مقدمہ عدالتی کارروائی یا دیگر قانونی کارروائیاں عمل میں نہیں لائی جائیں گی۔

۱۸۔ ازالہ مشکلات:- اس ایکٹ کے کسی احکامات کو موثر بنانے کے لیے اگر کوئی مشکل پیش آئے تو حکومت

ایسا حکمنامہ جاری کر سکے گی جو کہ اس ایکٹ کے احکامات کے متقاضی نہ ہو، جیسا کہ ازالہ مشکلات کی غرض کے لیے ضروری ہو۔

۱۹۔ استثنیٰ:- فوجداری مقدمات کی قانونی کارروائیوں کی ضمن میں، اس ایکٹ کے نفاذ سے قبل،

حکومت کی جانب سے کی گئی تمام تقرریاں کی گئی کارروائیاں اور اعلامیہ، اس ایکٹ کے تحت، وضع کی گئی اور جاری کردہ متصور ہوں گے۔

بیان اغراض ووجوه

اسلام آباد دارالحکومت علاقہ جات میں، عدالتوں کے پاس فوجداری مقدمات میں ریاست کی نمائندگی کرنے کے لیے مخصوص عدالتی کارروائی کرنے والی تاحال سروس موجود نہیں ہے۔ بل ہذا اسلام آباد دارالحکومت کے علاقہ جات میں عدالتی کارروائی اور قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے مابین بہتر تعاون کے لیے عدالتی خود مختاری کی یقین دہانی کے لیے فوجداری مقدمات کی عدالتی کارروائی کے لیے خود مختار موثر اور بہترین سروس قائم کرنے کا متلاشی ہے۔

وفاقی وزیر برائے قانون و انصاف